



COMUNE DI RAVENNA

*Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini
U.O. Politiche per l'Immigrazione e Cooperazione Decentrata
Centro Immigrati
Via Oriani 44, tel 0544/485314*

ان کے پاس اطالوی شہریت کی درخواست کرنے کا حق ہے:

غیر یورپی یونین کے شہری جن کے پاس 10 سال کی ریائش ہے؛
یورپی یونین کے وہ شہری جن کے پاس 4 سال کی ریائش ہے۔
سیاسی پناہ گزین جن کے پاس 5 سال سے ریائش ہے؛

غیر ملکی شہری جنہوں نے ایک اطالوی شہری کے ساتھ شادی کی ہے اور جشن منانے کے بعد کم از کم 2 سال تک اٹلی میں قانونی طور پر مقیم بیس شادی (اگر میان بیوی بیرون ملک رہتے بیس تو درخواست شادی کی تاریخ کے تین سال بعد جمع کرائی جا سکتی ہے؛ یہ شرائط میان بیوی کے پیدا ہونے یا گود لیے ہوئے بچوں کی موجودگی میں نصف تک کم بو جاتی ہیں۔)

دستاویزات کی فہرست

اطالوی نیچرلائزیشن کی درخواست کے لیے منسلک دستاویزات کی فہرست

1، اصل ملک کے برٹھ سرٹیفیکیٹ کا اقتباس تمام تفصیلات کے ساتھ

2، اصل ملک اور ریائش کے کسی تیسرا ملک سے مجرمانہ سرٹیفیکیٹ (جاری ہونے کی تاریخ سے 6 ماہ کے لیے درست)

3، ٹیکس فارم (CUD, UNICO, 730) پجھلے تین سالوں میں موصول ہونے والی آمدنی سے متعلق (ایک مخصوص رقم کی درخواست کی گئی ہے اور اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے) گھریلو ملازمین کے لیے ٹیکس ریٹرن درکار ہے۔

4، ریائشی اجازت نامہ

5، پاسپورٹ

6، اطالوی شناختی کارڈ

7، اطالوی زبان کی سطح B1 کے علم کی تصدیق کرنے والا سرٹیفیکیشن UE کے شہریوں کو اطالوی زبان کی سطح B1 کے علم کی تصدیق کرنے والے سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے غیر یورپی یونین کے شہری: صرف اس صورت میں جب ان کے پاس طویل مدتی ریائشی اجازت نامہ (سابقہ ریائشی کارڈ) بو یہ ضروری نہیں ہے۔

8، اٹلی اور بیرون ملک مقیم ریائش گابوں کی فہرست

9، آن لائن ادائیگی PAGOPA (پبلک ایڈمنسٹریشن سسٹم) کے ذریعے € 250.00 کا
تعاون

10، 16 یورو روپیہ میں پریفیکچر کی طرف سے قانونی حیثیت دی جانی چاہیے،
11، SPID سے لیں۔

پوائنٹ 1 اور 2 میں جن دستاویزات کا حوالہ دیا گیا ہے انہیں ریاست کی تشکیل
میں موجود اطالوی سفارتی یا قونسلر اتحادی کے ذریعہ قانونی حیثیت دی جانی
چاہیے، سوائے بین الاقوامی کنونشنز کی پابندی کرنے والی ریاستوں کے لیے فرایم
کردہ استثنی کے۔ مذکورہ بالا اتحادی کے ذریعے یا اُنہی میں، دستاویز جاری
کرنے والے ملک کی سفارتی یا قونسلر اتحادی (اس معاملے میں غیر ملکی اپلکار
کے دستخط کو مجاز پریفیکچر کی طرف سے قانونی حیثیت دی جانی چاہیے)، یا اُنہی
میں، دستاویزات کا اطالوی زبان میں ترجمہ کیا جانا چاہیے۔ ایک باضابطہ مترجم
یا مترجم جو غیر ملکی متن کے ساتھ مطلوبہ رسمیات کے ساتھ تعمیل کی تصدیق
کرتا ہے۔

اطالوی شہریت کے لیے درخواست کے لیے منسلک دستاویزات کی فہرست
ایک اطالوی شہری کے ساتھ شادی کا معاملہ

1، اصل ملک کے برٹھ سرٹیفیکیٹ کا اقتباس تمام تفصیلات کے ساتھ
2، اصل ملک اور ربائش کے کسی تیسرا ملک سے مجرمانہ سرٹیفیکیٹ (جاری ہونے کی
تاریخ سے 6 ماہ کے لیے درست)

3، شادی کا سرٹیفیکیٹ (اگر بیرون ملک، ترجمہ شدہ اور قانونی حیثیت رکھتا ہے)؛

4، ربائشی اجازت نامہ؛

5، پاسپورٹ؛

6، اطالوی شناختی کارڈ؛

7، اطالوی زبان کی سطح B1 کے علم کی تصدیق کرنے والا سرٹیفیکیشن UE کے شہریوں
کو اطالوی زبان کی سطح B1 کے علم کی تصدیق کرنے والے سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے

یورپی یونین کے شہری: صرف اس صورت میں جب ان کے پاس طویل مدتی رہائشی اجازت نامہ (سابقہ رہائشی کارڈ) بو یہ ضروری نہیں ہے۔

8، اٹلی اور بیرون ملک مقیم رہائش گابوں کی فہرست

9، آن لائن ادائیگی PAGOPA (پبلک ایڈمنسٹریشن سسٹم) کے ذریعے € 250.00 کا تعاون

10، 16 یورو روپیہ سیمپ;

11، SPID سے لیس کریں۔

(شہریت دینے والے فرمان کو اپنانے کے وقت شادی کے شہری اثرات کی کوئی تجلیل، تنسیخ یا خاتمه نہیں ہونا چاہیے اور میان بیوی کی کوئی ذاتی علیحدگی نہیں ہونی چاہیے)۔

2015/18/06 سے وزارت داخلہ نے فرایم کیا ہے کہ شہریت کی درخواست صرف الیکٹرانک طور پر جمع کی جا سکتی ہے، اس لیے تمام شہری اپنی درخواست کو مکمل کرنے کے لیے، SPID کا استعمال کرتے ہوئے، ویب سائٹ سے منسلک ہو کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔

<https://portaleservizi.dlci.interno.it/>

امیگرنٹ سینٹر کی مدد کے لیے یہ ضروری ہے۔

منگل اور جمعرات کو 09:00 سے 13:00 تک 0544485314 یا 3299079549 پر کال کرکے ملاقات کا وقت طے کریں۔

اپوائنٹمنٹ کے بغیر یا نامکمل دستاویزات والے لوگوں کو درخواستیں مکمل کرنے میں مدد نہیں کی جائے گی۔

براءہ کرم نوٹ کریں کہ شہریت دینے کے انتظامی طریقہ کار کے نتائج کے لیے میونسپل انتظامیہ ذمہ دار نہیں ہے، جو کہ پریفیکچر کی طرف سے علاقے میں نمائندگی کرنے والی وزارت داخلہ کی خصوصی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ صرف ایک تالیف کی مدد فرایم کرتی ہے۔

آخری اپ ڈیٹ 2023/22/02